



اگر یہ بات جس کا علم مجھ بعد میں ہوا، پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی (عمر کے بعد) حلال ہو جاتا

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا نبی ﷺ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے ساتھ بھی قربانی کا جانور نہیں تھا علی رضی اللہ عنہ یمن سے آئے تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کا احرام رسول اللہ ﷺ نے باندھا ہے میرا بھی احرام وہی ہے نبی ﷺ نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف کر کے بال کٹوا لیں اور حلال ہو جائیں سوائے ان کے جن کے پاس ہدی کا جانور ہو اس پر لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم منیٰ کی طرف اس طرح جائیں گے کہ ہمارے آل تناسل سے (منیٰ) ٹپک رہی ہوگی؟! یہ بات رسول اللہ ﷺ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: اگر یہ بات جس کا علم مجھ بعد میں ہوا، پہلے سے معلوم ہوتی تو میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا، اور اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں بھی (عمر کے بعد) حلال ہو جاتا عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تھیں اس لیے انہوں نے تمام اعمال حج ادا کئے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا پھر جب وہ پاک ہو گئیں اور بیت اللہ کا طواف کر لیا تو عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ لوگ حج اور عمرے دونوں کر کے واپس آئیں اور میں صرف حج ہی کر کے واپس آ جاؤں؟ تو آپ نے عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ انہیں ساتھ لے کر تنعم جائیں چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کرنے کے بعد عمرے کیا

[صحیح] [متفق علیہ]

جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حج کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ آپ ﷺ اور آپ کے صحابہ نے حج کا احرام باندھا، تاہم نبی ﷺ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے سوا ان میں سے کسی کے پاس بھی ہدی کا جانور نہیں تھا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے چنانچہ وہ آئے، اور ان کی فقالت دیکھی کہ انہوں نے احرام باندھا اور اپنے احرام کو نبی ﷺ کے احرام کے ساتھ معلق کر دیا جب وہ لوگ مکہ آئے تو نبی ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے حج کا احرام ختم کر کے اس عمرے کے لئے کر دیں اور عمرے کے لیے طواف اور سعی کریں اور پھر بال کٹوا کر مکمل طور پر حلال ہو جائیں یہ حکم اس شخص کے بارے میں تھا جو اپنے ساتھ ہدی نہ لایا تھا البتہ جو لوگ ہدی لے کر آئے تھے بشمول نبی ﷺ کے وہ طواف اور سعی کرنے کے بعد اپنے احرام ہی میں رہے جن لوگوں کو حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ حیرت و استعجاب سے کہنے لگے: ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حلال ہو کر اپنی بیویوں سے صحبت کریں اور پھر حج کا احرام باندھ کر منیٰ کی طرف روانہ ہوں حالانکہ ہم نے ابھی ابھی اپنی بیویوں سے ہم بستری کی ہو؟ نبی ﷺ تک جب ان کی یہ بات پہنچی اور آپ ﷺ کو علم ہوا کہ ان پر یہ بات بڑی گراں گزر رہی ہے تو آپ ﷺ نے انہیں حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے دلاسا دیا کہ: اگر مجھے یہ بات پہلے سے معلوم ہوتی جو بعد میں معلوم ہوئی ہے تو میں اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہ لاتا جس نے مجھے حلال ہونے سے روک دیا اور میں بھی تمہارے ساتھ حلال ہو جاتا اس پر ان کے دل راضی اور مطمئن ہو گئے جب وہ مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں چنانچہ وہ حج قرآن کرنے والی ہو گئیں کیونکہ حیض آنے کی وجہ سے وہ بیت اللہ کا طواف نہ کر سکیں تاہم طواف اور سعی کے علاوہ انہوں نے تمام مناسک ادا کئے جب وہ حیض سے پاک ہو گئیں اور اپنے حج کے لیے بیت اللہ کا طواف کیا تو ان کے دل میں گرے پڑ گئے کہ اکثر صحابہ بشمول نبی ﷺ کی ازواج نے تو الگ سے عمرے بھی کیا اور حج بھی، جب کہ ان کا عمرے، حج کے اندر شامل ہو گیا اس پر وہ رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگیں: آپ لوگ حج اور

عمرؑ دونوں کر کھ واپس لے لو رہے ہیں اور میں صرف حج کرکے واپس لے جاؤں؟ آپ لے ان کی دل جوئی کے لیے ان کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں مقام تنعیم لے کر جائیں (تا کہ وہ اس سے احرام باندھ لیں) چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کے بعد عمرؑ کی ادائیگی کی۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/4550>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

